

28	<p> $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$ </p>	UC 114
28	<p> $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (m v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$ </p>	UC 115
28	<p> $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (m v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$ </p>	UC 116
29	<p> $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (m v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$ </p>	UC 117
29	<p> $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (m v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$ </p>	UC 118
29	<p> $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (m v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$ </p>	UC 119
30	<p> $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (m v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$ </p>	UC 120
30	<p> $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (m v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$ </p>	UC 121
31	<p> $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} (m v^2) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$ </p>	UC 122

فوائد و احكام

فوائد و احكام من كتاب "الاحكام الشرعية" للشيخ محمد بن عبد الوهاب

#	فردی و جمعی	#	موضوع
1	000028753	10	زکوة و صدقات
2	000028863	11	حج و عمره
3	000023646	12	نکاح و طلاق
4	000028420	13	سود و سودا
5	000028295	14	سود و سودا
6	000028156	15	سود و سودا
7	000028454	16	سود و سودا
8	000029372	17	سود و سودا
9	000008639	18	سود و سودا

فوائد و احكام

#	فردی و جمعی	#	موضوع
1	000011214	7	سود و سودا
2	000018911	8	سود و سودا
3	000024850	9	سود و سودا
4	000024846	10	سود و سودا
5	000005014	11	سود و سودا
6	000013909	12	سود و سودا

تعمیراتی منصوبوں کی فہرست - حروفِ تہجی

#	تعمیراتی منصوبہ	سلسلہ	#	تعمیراتی منصوبہ	سلسلہ
1	000010644	بہارِ تہذیبی	14	000010030	تعمیراتی منصوبہ حروفِ تہجی
2	000000963	اگر دیکھ کر دیکھ لو	15	000002178	تعمیراتی منصوبہ اللہ اگر دیکھ کر
3	000015472	اگر دیکھ کر سب سے	16	000010471	بہارِ تہذیبی
4	000006181	اگر دیکھ کر سب سے	17	000006137	اگر دیکھ کر دیکھ کر
5	000006177	بہارِ تہذیبی حروفِ تہجی	18	000016636	بہارِ تہذیبی حروفِ تہجی
6	000009117	بہارِ تہذیبی حروفِ تہجی	19	000005578	تعمیراتی منصوبہ حروفِ تہجی
7	000011162	بہارِ تہذیبی حروفِ تہجی	20	000006178	اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر
8	000010433	اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر	21	000001507	اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر
9	000018770	اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر	22	000018649	اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر
10	000005391	اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر	23	000013830	تعمیراتی منصوبہ حروفِ تہجی
11	000010188	اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر	24	000010430	اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر
12	000018778	بہارِ تہذیبی حروفِ تہجی	25	000007306	بہارِ تہذیبی حروفِ تہجی
13	000014597	تعمیراتی منصوبہ حروفِ تہجی	26	000006194	تعمیراتی منصوبہ حروفِ تہجی
			27	000008354	بہارِ تہذیبی حروفِ تہجی

تعمیراتی منصوبوں کی فہرست - حروفِ تہجی

تعمیراتی منصوبوں کی فہرست - حروفِ تہجی

#	تعمیراتی منصوبہ	سلسلہ	#	تعمیراتی منصوبہ	سلسلہ
1	000024173	بہارِ تہذیبی حروفِ تہجی	11	000007915	تعمیراتی منصوبہ حروفِ تہجی
2	00003220	اگر دیکھ کر اگر دیکھ کر	12	000003138	تعمیراتی منصوبہ حروفِ تہجی

بروڻو ڪوٺو	000029054	13	اڙوڻو سوارو	000023905	3
برسارو ڀڙو	000003298	14	ڳاڙهو ڳاڙو	000023575	4
برسارو ڳاڙو	000016968	15	ڳاڙهو ڳاڙو	000015638	5
اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000003010	16	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000028251	6
ڏاڙو ڪوٺو ڪوٺو	000024060	17	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000018705	7
ڏاڙو ڪوٺو ڪوٺو	000028616	18	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000017767	8
ڪوٺو ڪوٺو	000006325	19	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000015820	9
اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000029315	20	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000023668	10
اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000028304	21			

ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو

ڪوٺو	ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	#	ڪوٺو	ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	#
ڪوٺو ڪوٺو	000013205	6	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000008866	1
ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	000018965	7	ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	000006199	2
ڏاڙو ڪوٺو ڪوٺو	000021782	8	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000013874	3
ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	000008697	9	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	00003415	4
ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	000017087	10	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000017640	5
ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	000012196	11			

ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو (ڪوٺو)

ڪوٺو	ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	#	ڪوٺو	ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	#
ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	000008372	6	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000018824	1
ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	000016338	7	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000017159	2
ڪوٺو ڪوٺو ڪوٺو	000017193	8	اڙو ڪوٺو ڪوٺو	000003178	3

سومبر ڈرائنگ	000018936	20	رہبرو ۱۰۰۰۰	000003607	8
سومبر ۱۰۰۰۰	000007647	21	رہبرو ۱۰۰۰۰	000010703	9
سومبر ۱۰۰۰۰	000007725	22	رہبرو ۱۰۰۰۰	000003822	10
سومبر ۱۰۰۰۰	000011192	23	رہبرو ۱۰۰۰۰	000004101	11
سومبر ۱۰۰۰۰	000002330	24	رہبرو ۱۰۰۰۰	000000433	12
سومبر ۱۰۰۰۰	000007726	25			

سومبر ۱۰۰۰۰ ڈرائنگ

سومبر	سومبر ۱۰۰۰۰	#	سومبر	سومبر ۱۰۰۰۰	#
رہبرو ۱۰۰۰۰	000000399	10	رہبرو ۱۰۰۰۰	000007652	1
رہبرو ۱۰۰۰۰	000005444	11	رہبرو ۱۰۰۰۰	000004278	2
رہبرو ۱۰۰۰۰	000003418	12	رہبرو ۱۰۰۰۰	000010519	3
رہبرو ۱۰۰۰۰	000002837	13	رہبرو ۱۰۰۰۰	000007598	4
رہبرو ۱۰۰۰۰	000001384	14	رہبرو ۱۰۰۰۰	000007589	5
رہبرو ۱۰۰۰۰	000019060	15	رہبرو ۱۰۰۰۰	000006392	6
رہبرو ۱۰۰۰۰	000000450	16	رہبرو ۱۰۰۰۰	000010521	7
رہبرو ۱۰۰۰۰	000000526	17	رہبرو ۱۰۰۰۰	000006417	8
رہبرو ۱۰۰۰۰	000019038	18	رہبرو ۱۰۰۰۰	000015491	9

سومبر ۱۰۰۰۰ ڈرائنگ

سومبر	سومبر ۱۰۰۰۰	#	سومبر	سومبر ۱۰۰۰۰	#
رہبرو ۱۰۰۰۰	000019499	18	رہبرو ۱۰۰۰۰	000007531	1
رہبرو ۱۰۰۰۰	000018791	19	رہبرو ۱۰۰۰۰	000004073	2
رہبرو ۱۰۰۰۰	000019069	20	رہبرو ۱۰۰۰۰	000004872	3

دَرَمَدَو سَوَدَر	000019014	21	دَرَمَدَو سَوَدَر	000019007	4
دَرَمَدَو سَوَدَر	000004772	22	دَرَمَدَو سَوَدَر	000003004	5
دَرَمَدَو سَوَدَر	000018959	23	دَرَمَدَو سَوَدَر	000004025	6
دَرَمَدَو سَوَدَر	000015204	24	دَرَمَدَو سَوَدَر	000005155	7
دَرَمَدَو سَوَدَر	000015482	25	دَرَمَدَو سَوَدَر	000005740	8
دَرَمَدَو سَوَدَر	000018964	26	دَرَمَدَو سَوَدَر	000019503	9
دَرَمَدَو سَوَدَر	000010796	27	دَرَمَدَو سَوَدَر	000014560	10
دَرَمَدَو سَوَدَر	000018678	28	دَرَمَدَو سَوَدَر	000003551	11
دَرَمَدَو سَوَدَر	000014794	29	دَرَمَدَو سَوَدَر	000003636	12
دَرَمَدَو سَوَدَر	000011002	30	دَرَمَدَو سَوَدَر	000014866	13
دَرَمَدَو سَوَدَر	000018976	31	دَرَمَدَو سَوَدَر	000018987	14
دَرَمَدَو سَوَدَر	000003433	32	دَرَمَدَو سَوَدَر	000018958	15
دَرَمَدَو سَوَدَر	000019716	33	دَرَمَدَو سَوَدَر	000015238	16
دَرَمَدَو سَوَدَر	000005824	34	دَرَمَدَو سَوَدَر	000000666	17
دَرَمَدَو سَوَدَر	000010710	35			

دَرَمَدَو سَوَدَر

دَرَمَدَو سَوَدَر دَرَمَدَو سَوَدَر دَرَمَدَو سَوَدَر دَرَمَدَو سَوَدَر دَرَمَدَو سَوَدَر
دَرَمَدَو سَوَدَر

دَرَمَدَو سَوَدَر	دَرَمَدَو سَوَدَر	#
دَرَمَدَو سَوَدَر	000023411	1
دَرَمَدَو سَوَدَر	000024628	2
دَرَمَدَو سَوَدَر	000020676	3

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 أَلِفٌ لَامٌ مِيمٌ نُونٌ هَاءٌ

#	قرآن مجید سورہ	سورہ
1	000022078	سورہ بقرہ سورہ
2	000021208	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 أَلِفٌ لَامٌ مِيمٌ نُونٌ هَاءٌ

#	قرآن مجید سورہ	سورہ	#	قرآن مجید سورہ	سورہ
1	000022132	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	6	000021579	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
2	000018102	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	7	000024402	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3	000012691	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	8	000018756	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
4	000018748	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	9	000014634	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
5	000021420	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	10	000024823	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 أَلِفٌ لَامٌ مِيمٌ نُونٌ هَاءٌ

#	قرآن مجید سورہ	سورہ
2	000020953	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

#	قرآن مجید سورہ	سورہ	#	قرآن مجید سورہ	سورہ
1	000028257	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	6	000029335	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
2	000028590	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	7	000013682	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَرَّ اَرَدَعِج	000025345	8	اَرَدَسَرَمُو دَرَرَدَر	000017913	3
سَبَعِه اَرَر اَرَعَه اَرَر مَرَسُو	000017848	9	اَرَدَسَرَمُو مَرَسُو	000029090	4
سَوَسَر اَرَر دَر	000003573	10	قَوَبَر دَر دَر	000028631	5
سَوَسَر قَوَسُو	000021851	11			

اَرَعَه وَاَسَرَسُو سَوَسَر اَرَر مَرَسُو

مَرَسُو	قَوَبَر وَاَسَرَسُو	#	مَرَسُو	قَوَبَر وَاَسَرَسُو	#
دَر مَرَسُو سَوَسَر	000029364	7	اَرَر مَرَسُو دَر مَرَسُو	000024427	1
دَر مَرَسُو سَوَسَر	000028661	8	اَرَر مَرَسُو اَرَر دَر	000024461	2
دَر مَرَسُو سَوَسَر	000026280	9	اَرَدَسَرَمُو مَرَسُو	000029368	3
سَرَج دَر اَرَعَه اَرَر	000012596	10	اَرَدَسَرَمُو سَوَسَر	000028140	4
سَوَسَر مَرَسُو اَرَعَه اَرَر	000026550	11	دَر مَرَسُو اَرَعَه دَر	000028778	5
سَوَسَر مَرَسُو	000024214	12	دَر مَرَسُو سَوَسَر	000012993	6

اَرَعَه وَاَسَرَسُو سَوَسَر اَرَر مَرَسُو (سَر مَرَسُو دَر مَرَسُو مَرَسُو)

مَرَسُو	قَوَبَر وَاَسَرَسُو	#	مَرَسُو	قَوَبَر وَاَسَرَسُو	#
قَوَبَر دَر مَرَسُو	000021662	11	اَرَر مَرَسُو مَرَسُو	000028325	1
مَرَسُو مَرَسُو	000026011	12	اَرَر مَرَسُو مَرَسُو	000025584	2
اَرَر مَرَسُو	000026329	13	اَرَر مَرَسُو مَرَسُو	000016581	3
مَرَسُو مَرَسُو	000023880	14	اَرَر مَرَسُو مَرَسُو	000025877	4
مَرَسُو مَرَسُو	000026298	15	اَرَر مَرَسُو مَرَسُو	000029287	5
دَر مَرَسُو مَرَسُو	000028585	16	اَرَدَسَرَمُو مَرَسُو	000023692	6
دَر مَرَسُو مَرَسُو	000025829	17	اَرَدَسَرَمُو مَرَسُو	000029227	7
مَرَسُو مَرَسُو	000026791	18	قَوَبَر دَر مَرَسُو	000026260	8

سَوَدِيَّةٌ زَبْرَدَاتٌ	000026398	19	قُرْبَانِيَّةٌ مَّرْمُورٌ	000025848	9
سَوَدِيَّةٌ زَبْرَدَاتٌ	000029228	20	قُرْبَانِيَّةٌ مَرِيَّةٌ	000013210	10

أَعْيَانُ وَسُلُوكٌ سَوَدِيَّةٌ زَبْرَدَاتٌ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

سُرَّةٌ	قُرْبَانِيَّةٌ مَرْمُورٌ	#	سُرَّةٌ	قُرْبَانِيَّةٌ مَرْمُورٌ	#
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000026303	9	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000011994	1
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000024587	10	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	00008270	2
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000024217	11	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000017649	3
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000021434	12	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000029384	4
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000025758	13	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000021101	5
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000012189	14	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000028463	6
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000024201	15	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000021987	7
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000028546	16	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000025655	8
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000024745	17			

أَعْيَانُ وَسُلُوكٌ سَوَدِيَّةٌ زَبْرَدَاتٌ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

سُرَّةٌ	قُرْبَانِيَّةٌ مَرْمُورٌ	#	سُرَّةٌ	قُرْبَانِيَّةٌ مَرْمُورٌ	#
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000026786	3	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000021935	1
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000013846	4	زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000020963	2
زَبْرَدَاتٌ مَرْمُورٌ	000026641	5			

لایحه و ترمیمات سند و تاریخ ارسال آن در مورد قرارداد شماره 000006295

شماره	تاریخ و نام سند	#
شماره قرارداد	000006295	2

تاریخ و نام سند و تاریخ ارسال آن در مورد قرارداد شماره 000006295

سند و تاریخ 3 ارسال آن در مورد قرارداد شماره 000006295

شماره	تاریخ و نام سند	#	شماره	تاریخ و نام سند	#
برگه قرارداد	000032190	4	برگه قرارداد	000032186	1
برگه قرارداد	000016575	5	برگه قرارداد	000030843	2
برگه قرارداد	000032193	6	برگه قرارداد	000028657	3
برگه قرارداد	000009996	7			

سند و تاریخ 3 ارسال آن در مورد قرارداد شماره 000006295

شماره	تاریخ و نام سند	#	شماره	تاریخ و نام سند	#
برگه قرارداد	000017224	3	برگه قرارداد	000024251	1
برگه قرارداد	000030037	4	برگه قرارداد	000028177	2
برگه قرارداد	000030540	5			

سُورَةُ مَائِدَةٍ 3 آيَاتُهَا ١١

#	تَمْرِيقُ السُّورَةِ	سُورَةُ	#	تَمْرِيقُ السُّورَةِ	سُورَةُ
1	000028137	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	6	000021172	ذُرِّيَّةً نَزَّاجِجَةً
2	000028381	أَنْزَلْنَاهُ رِسَالًا وَعَدَّ حِسَابًا	7	000028798	ذُرِّيَّةً نَزَّاجِجَةً
3	000028659	أَنْزَلْنَاهُ رِسَالًا وَعَدَّ حِسَابًا	8	000026114	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
4	000030586	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	9	000025753	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
5	000028774	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	10	000028776	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
			11	000030723	ذُرِّيَّةً نَزَّاجِجَةً

سُورَةُ مَائِدَةٍ 3 آيَاتُهَا ١١

#	تَمْرِيقُ السُّورَةِ	سُورَةُ	#	تَمْرِيقُ السُّورَةِ	سُورَةُ
1	000030178	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذُرِّيَّةً نَزَّاجِجَةً	4	000030902	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
2	000030901	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	5	000030891	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3	000031412	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	6	000018906	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ مَائِدَةٍ 3 آيَاتُهَا ١١

#	تَمْرِيقُ السُّورَةِ	سُورَةُ	#	تَمْرِيقُ السُّورَةِ	سُورَةُ
1	000005123	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	5	000025150	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
2	000023792	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	6	000014045	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3	000025232	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	7	000025170	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
4	000020786	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	8	000022655	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سیدھا سیکورٹی، ایڈمنسٹریشن، ایسٹبلشمنٹ، ایسٹبلشمنٹ

#	قریبی نوٹس نمبر	سرٹ	#	قریبی نوٹس نمبر	سرٹ
1	000022491	ایڈمنسٹریشن	5	000026656	ایڈمنسٹریشن
2	000020358	ایڈمنسٹریشن ڈسٹریکٹ	6	000025193	ایڈمنسٹریشن ڈسٹریکٹ
3	000026619	ایڈمنسٹریشن	7	000026319	ایڈمنسٹریشن
4	000025726	ایڈمنسٹریشن	8	000025191	ایڈمنسٹریشن
			9	000017536	ایڈمنسٹریشن

ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریشن

ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریشن

#	قریبی نوٹس نمبر	سرٹ	#	قریبی نوٹس نمبر	سرٹ
1	000030236	ایڈمنسٹریشن	8	000029417	ایڈمنسٹریشن
2	000030248	ایڈمنسٹریشن	9	000015151	ایڈمنسٹریشن
3	000030241	ایڈمنسٹریشن	10	000030230	ایڈمنسٹریشن
4	000030235	ایڈمنسٹریشن	11	000030234	ایڈمنسٹریشن
5	000030228	ایڈمنسٹریشن	12	000021433	ایڈمنسٹریشن
6	000029251	ایڈمنسٹریشن	13	000006197	ایڈمنسٹریشن
7	000030226	ایڈمنسٹریشن	14	000029245	ایڈمنسٹریشن

ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریشن، ایڈمنسٹریشن

#	قریبی نوٹس نمبر	سرٹ	#	قریبی نوٹس نمبر	سرٹ
1	000023002	ایڈمنسٹریشن	8	000015636	ایڈمنسٹریشن

دَرَسَاتُ رَحْمَةٍ	000023009	9	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000023011	2
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000023012	10			

مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ فِي مَجْمُوعَةِ آيَاتِ الرَّسُولِ (مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ، مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ)

مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ	مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ	#	مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ	مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ	#
دَرَسَاتُ رَحْمَةٍ	000023006	8	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022997	1
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022991	9	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022998	2
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000003026	10	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000011267	3
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000023010	11	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000006697	4
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022984	12	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022920	5
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022983	13	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000008678	6
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022986	14	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000023007	7
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000010455	15			

مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ فِي مَجْمُوعَةِ آيَاتِ الرَّسُولِ (مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ، مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ)

مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ	مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ	#	مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ	مَجْمُوعَةُ آيَاتِ الرَّسُولِ	#
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022978	5	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000009455	1
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000000683	6	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000011840	2
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000023020	7	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022940	3
رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022993	8	رَبِّهِمْ وَرَبِّ	000022974	4

مذکورہ ذیل ایسٹوٹو ایسٹوٹو (گورنر ناؤس)

#	قریبوتی سروس	سروس
2	000022959	ایچ سٹ ایسٹوٹو ایسٹوٹو

مذکورہ ذیل ایسٹوٹو ایسٹوٹو (گورنر ناؤس)

#	قریبوتی سروس	سروس	#	قریبوتی سروس	سروس
1	000022935	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	4	000030082	ایسٹوٹو ایسٹوٹو
2	000022965	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	5	000030127	ایسٹوٹو ایسٹوٹو
3	000030095	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	6	000030117	ایسٹوٹو ایسٹوٹو

مذکورہ ذیل ایسٹوٹو ایسٹوٹو (سٹاٹوٹو ناؤس، ایسٹوٹو ایسٹوٹو)

#	قریبوتی سروس	سروس	#	قریبوتی سروس	سروس
1	000030057	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	7	000030072	ایسٹوٹو ایسٹوٹو
2	000022927	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	8	000015925	ایسٹوٹو ایسٹوٹو
3	000030054	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	9	000006060	ایسٹوٹو ایسٹوٹو
4	000030092	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	10	000030070	ایسٹوٹو ایسٹوٹو
5	000003506	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	11	000012214	ایسٹوٹو ایسٹوٹو
6	000030088	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	12	000000307	ایسٹوٹو ایسٹوٹو

مذکورہ ذیل ایسٹوٹو ایسٹوٹو (سٹاٹوٹو ناؤس، ایسٹوٹو ایسٹوٹو)

#	قریبوتی سروس	سروس	#	قریبوتی سروس	سروس
1	000019369	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	3	000030115	ایسٹوٹو ایسٹوٹو
2	000010954	ایسٹوٹو ایسٹوٹو	4	000012215	ایسٹوٹو ایسٹوٹو

مذکورہ ذیل چیک بکسز ایسٹوٹو ایسٹریٹ (گرمیہ ٹاؤن)

سری	نمبر	نمبر	سری	نمبر	سری
سری	000018779	3	سری	000006243	1
سری	00030144	4	سری	000023014	2
سری	000030158	5			

مذکورہ ذیل چیک بکسز ایسٹوٹو

سری	نمبر	نمبر
سری	000023059	1
سری	000030118	2

مذکورہ ذیل ڈیپازٹرز کے ناموں پر مشتمل

ایسٹوٹو کے ناموں پر مشتمل ڈیپازٹرز - 2017

سری	نمبر	نمبر	سری	نمبر	سری
سری	000029026	3	سری	000020960	1
سری	000005862	4	سری	000021287	2

ایسٹوٹو کے ناموں پر مشتمل ڈیپازٹرز - سہ ماہی ڈیپازٹرز

سری	نمبر	نمبر	سری	نمبر	سری
سری	000024310	3	سری	000029433	1
سری	000028430	4	سری	000024383	2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُرّ	قُرْآنِ سُرّ	#
سُرّ	سُرّ	1

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُرّ	قُرْآنِ سُرّ	#	سُرّ	قُرْآنِ سُرّ	#
سُرّ	000021304	7	سُرّ	000017734	1
سُرّ	000021617	8	سُرّ	000020275	2
سُرّ	000016332	9	سُرّ	000023791	3
سُرّ	000023796	10	سُرّ	000021649	4
سُرّ	000019087	11	سُرّ	000021570	5
سُرّ	000023810	12	سُرّ	000022014	6
سُرّ	000017128	13			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُرّ	قُرْآنِ سُرّ	#	سُرّ	قُرْآنِ سُرّ	#
سُرّ	000016733	5	سُرّ	000024338	1
سُرّ	000018877	6	سُرّ	000006477	2
سُرّ	000021078	7	سُرّ	000021809	3
سُرّ	000017937	8	سُرّ	000013912	4

تعمیراتی اور تعمیراتی منصوبے

سرسر	تعمیراتی منصوبہ نمبر	#	سرسر	تعمیراتی منصوبہ نمبر	#
ڈیرا ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000010786	7	ڈیرا ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000003981	1
سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000018961	8	ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000014806	2
سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000000500	9	ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000000240	3
سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000005348	10	ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000012108	4
سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000010987	11	ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000019921	5
سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000013185	12			

تعمیراتی اور تعمیراتی منصوبے

سرسر	تعمیراتی منصوبہ نمبر	#
ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000019046	1
ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000019824	2
ڈیرا ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000007480	3

تعمیراتی اور تعمیراتی منصوبے

تعمیراتی اور تعمیراتی منصوبے

سرسر	تعمیراتی منصوبہ نمبر	#	سرسر	تعمیراتی منصوبہ نمبر	#
ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000026379	9	ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000026339	1
ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000026337	10	ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000026332	2
ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000011711	11	ڈیرا ڈیولپمنٹ اتھارٹی	000026380	3

000026330	12	000010825	4
000026382	13	000026333	5
000026375	14	000001643	6
000026341	15	000026338	7
00002288	16	000005018	8

فہرست نمبر ۱۱ (سائنس، ٹیچنگ، ایجوکیشن)

نمبر	فہرست نمبر	#
000009886	1	
000014882	2	

فہرست نمبر ۱۲ (سائنس، ٹیچنگ، ایجوکیشن)

نمبر	فہرست نمبر	#
00009852	1	
000014885	2	
000015843	3	

فہرست نمبر ۱۳ (سائنس، ٹیچنگ، ایجوکیشن)

نمبر	فہرست نمبر	#	نمبر	فہرست نمبر	#
000030115	3		000019369	1	
000012215	4		000010954	2	

مکتوبات آیتو شیخ (حصہ نمبر ۱۰۲)

مکتوب	مکتوب نمبر	#	مکتوب	مکتوب نمبر	#
آیتو مکتوب	000011263	3	آیتو مکتوب	000014369	1
آیتو مکتوب	000014880	4	آیتو مکتوب	000012132	2
آیتو مکتوب	000015558	5			

مکتوبات آیتو شیخ

مکتوب	مکتوب نمبر	#	مکتوب	مکتوب نمبر	#
آیتو مکتوب	000005869	9	آیتو مکتوب	000004414	1
آیتو مکتوب	000000578	10	آیتو مکتوب	000007367	2
آیتو مکتوب	00001390	11	آیتو مکتوب	000002611	3

مکتوبات آیتو شیخ

مکتوب	مکتوب نمبر	#
آیتو مکتوب	000011091	1

UC
110

فَصَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ سَيُخَفِّضَ اللهُ لَكَ دَرَجَاتٍ مِّنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فَصَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ سَيُخَفِّضَ اللهُ لَكَ دَرَجَاتٍ مِّنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فَصَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ سَيُخَفِّضَ اللهُ لَكَ دَرَجَاتٍ مِّنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

قُرْآنٌ مُّذْمُوْرٌ مُّخْتَارٌ: 26 دُرُودٌ 2012

فَصَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ سَيُخَفِّضَ اللهُ لَكَ دَرَجَاتٍ مِّنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فَصَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ سَيُخَفِّضَ اللهُ لَكَ دَرَجَاتٍ مِّنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فَصَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ سَيُخَفِّضَ اللهُ لَكَ دَرَجَاتٍ مِّنْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

UC
111

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَلْمُكَ أَحَدٌ وَلَا يَسْتَعِينُ بِكَ أَحَدٌ وَلَا يَمْلِكُ بِكَ شَيْءٌ وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْكَ شَيْءٌ
سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَلْمُكَ أَحَدٌ وَلَا يَسْتَعِينُ بِكَ أَحَدٌ وَلَا يَمْلِكُ بِكَ شَيْءٌ وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْكَ شَيْءٌ

قُرْآنٌ مُّذْمُوْرٌ مُّخْتَارٌ: 26 دُرُودٌ 2012

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَلْمُكَ أَحَدٌ وَلَا يَسْتَعِينُ بِكَ أَحَدٌ وَلَا يَمْلِكُ بِكَ شَيْءٌ وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْكَ شَيْءٌ
سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَلْمُكَ أَحَدٌ وَلَا يَسْتَعِينُ بِكَ أَحَدٌ وَلَا يَمْلِكُ بِكَ شَيْءٌ وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْكَ شَيْءٌ
سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَلْمُكَ أَحَدٌ وَلَا يَسْتَعِينُ بِكَ أَحَدٌ وَلَا يَمْلِكُ بِكَ شَيْءٌ وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْكَ شَيْءٌ

UC
112


اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ

قُرْآنٌ مُّذْمُوْرٌ مُّخْتَارٌ: 26 دُرُودٌ 2012

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلِّمْ

The Maldives National University

ORGANIZATIONAL STRUCTURE



3rd Revision 28/04/2007
 4th Revision 2/03/2011
 Approved Revision 28/03/2011

تعمیر و تجدید بنی در بنابر و کتب و کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز علمی و فرهنگی

UC
114

تاریخ به روز رسانی: 02 شهریور 2012

این سند به منظور تعیین حداقل استانداردهای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز برای برقراری و حفظ کیفیت خدمات در مراکز خدماتی دانشگاهی تدوین شده است. همچنین به منظور تعیین حداقل استانداردهای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز برای برقراری و حفظ کیفیت خدمات در مراکز خدماتی دانشگاهی تدوین شده است. همچنین به منظور تعیین حداقل استانداردهای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز برای برقراری و حفظ کیفیت خدمات در مراکز خدماتی دانشگاهی تدوین شده است.

تعمیر و تجدید بنی در بنابر و کتب و کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز علمی و فرهنگی

UC
115

تاریخ به روز رسانی: 16 شهریور 2012

این سند به منظور تعیین حداقل استانداردهای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز برای برقراری و حفظ کیفیت خدمات در مراکز خدماتی دانشگاهی تدوین شده است. همچنین به منظور تعیین حداقل استانداردهای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز برای برقراری و حفظ کیفیت خدمات در مراکز خدماتی دانشگاهی تدوین شده است. همچنین به منظور تعیین حداقل استانداردهای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز برای برقراری و حفظ کیفیت خدمات در مراکز خدماتی دانشگاهی تدوین شده است.

تعمیر و تجدید بنی در بنابر و کتب و کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز علمی و فرهنگی

UC
116

تاریخ به روز رسانی: 16 شهریور 2012

این سند به منظور تعیین حداقل استانداردهای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز برای برقراری و حفظ کیفیت خدمات در مراکز خدماتی دانشگاهی تدوین شده است. همچنین به منظور تعیین حداقل استانداردهای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز برای برقراری و حفظ کیفیت خدمات در مراکز خدماتی دانشگاهی تدوین شده است. همچنین به منظور تعیین حداقل استانداردهای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز برای برقراری و حفظ کیفیت خدمات در مراکز خدماتی دانشگاهی تدوین شده است.

UC
117

ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں

قائم شدہ قانون کے تحت: 16 نومبر 2012

ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں 2 ویں اجلاس منعقد ہوا جس میں ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں 24 نومبر 2012 کو منعقد ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی کارروائی کے بارے میں 2 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں 24 نومبر 2012 کو منعقد ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی کارروائی کے بارے میں 2 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں 24 نومبر 2012 کو منعقد ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی کارروائی کے بارے میں 2 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔

UC
118

ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں

قائم شدہ قانون کے تحت: 23 نومبر 2012

ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں 7.5 نومبر 2012 کو منعقد ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی کارروائی کے بارے میں 23 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں 7.5 نومبر 2012 کو منعقد ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی کارروائی کے بارے میں 23 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔

UC
119

ایجنٹوں کے سہولتوں کے بارے میں 20 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں 20 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔

قائم شدہ قانون کے تحت: 23 نومبر 2012

ایجنٹوں کے سہولتوں کے بارے میں 20 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں 20 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس رپورٹ میں ریفرنس ڈیپارٹمنٹ کے ایجنٹوں کی سرکاری کارروائی کے بارے میں 20 نومبر 2012 کی رپورٹ پیش کی گئی۔

تیسرا نمبر: جون 2012ء

1. سائنسوں کی تاریخ و سائنس، "سائنسوں کی تاریخ" اور "تاریخ" کے تعلق اور ان کے درمیان
تعلق کو بیان کریں۔

سائنسوں کی تاریخ

تاریخ

سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
تاریخ، سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔

دستیاب

1. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
2. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
3. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
4. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
5. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
6. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔

دستیاب

1. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
2. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
3. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
4. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔
5. سائنسوں کی تاریخ اور سائنس کے درمیان تعلق اور ان کے درمیان تعلق کو بیان کریں۔

